







1





2



3



4



*1 EN: Hold until green blinking. FRCA: Maintenir jusqu'au clignotement en vert. ESMX: Manténgalo presionado hasta que parpadee en verde. PTBR: Pressione até que pisque em verde. FR: Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce qu'il clignote en vert. DE: Bis zum Blinken in Grün halten. IT: Tenere premuto fino al lampeggiamento verde. NL: Ingedrukt houden tot het lampje groen knippert. ES: Mantener presionado hasta que parpadee en verde. PT: Manter até piscar a verde. DA: Hold, til den blinker grønt. EL: Κρατήστε μέχρι να αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. TR: Yeşil renk yanıp sönmeye başlayana kadar tutun. SV: Håll in tills det blinkar grönt. NO: Hold til det blinker grønt. FI: Pidä kunnes vihreä vilkkuu. LV: Turiet nospiestu, līdz sāks mirgot zaļā krāsā. LT: Laikykite, kol pradės mirksėti žalia lemputė. ET: Hoidke all, kuni roheline tuli hakkab vilkuma. PL: Przytrzymaj do momentu, aż zacznie migać kolorem zielonym. HU: Tartsa lenyomva, amíg a lámpa zölden villog. SK: Podržte stlačené, kým nezačne blikať zelenou farbou. CS: Přidrže, dokud nezačne blikat zelená. SL: Zadržite, dokler ne začne utripati zeleno. SQ: Mbjajeni deri sa të pulsojë drita jeshile. BG: Задръжете, докато започне да мига със зелена светлина. HR: Pritišćite sve dok ne počne bljeskati zelena lampica. MK: Држи притиснато додека трепка зелено. SR: Држите док трепће зелено. RO: Țineți apăsat până când se aprinde intermitent în culoarea verde. UK: Продовжуйте натискати, поки не почне блимати зеленим. RU: Удерживайте, пока не начнет мигать зеленым. ZHCN: 按住直到绿色灯光闪烁. ZHTW: 按住直到綠燈閃爍. KO: 녹색이 깜박일 때까지 길게 누릅니다. ID: Tahan hingga lampu hijau berkedip. VI: Nhấn giữ cho đến khi đèn xanh lá cây nhấp nháy. TH: กดปุ่มค้างไว้จนกว่าไฟสีเขียวจะกะพริบ. FA: نگه دارید تا سبز چشمک بزند. AR: اضغط باستمرار حتى الوميض باللون الأخضر. HE: החזק עד להבהוב בירוק. 885608-922